

- iii. He resigned \_\_\_\_\_ his job.  
 iv. I am waiting \_\_\_\_\_ the bus stop.  
 v. I looked this word \_\_\_\_\_ in the dictionary, but I still don't understand it.  
 vi. Are you \_\_\_\_\_ or \_\_\_\_\_ the President?  
 vii. I'd rather be single \_\_\_\_\_ in a bad relationship.  
 viii. We've put a lot of effort \_\_\_\_\_ this project.

**Q.6. A. Use only FIVE pairs of words in sentences clearly illustrating their meanings.**

- i. Affection, Affectation      ii. Censor, Censure      iii. Dual, Duel      iv. Eminent, Imminent      (05)  
 v. Famous, Notorious      vi. Huc, Hew      vii. Bow, Bow      viii. Shear, Sheer

**B. Rewrite the following passages, converting what is in direct speech into indirect, and what is in indirect speech into direct.**

Maggie: Tom, how much money did you give for the rabbits. (05)

Tom: Five shillings and six pence.

Maggie: I think I've got more than that in my box upstairs. I'll ask mother to give it to you.

Tom: What for? I don't want your money. I've got far more money.

Maggie: I want to buy some more rabbits.

**Q.7. Translate the following into English by keeping in view any figurative /idiomatic expression. (10)**

ایک طالب علم کا فریضہ حیات اساتذہ اور کتب سے کسب ضیا ہے۔ جو زندگی کی تاریک راہوں کو ان کے لئے منور کر سکے۔ اس فریضے کی ادائیگی میں یکسوئی اور مستقل مزاجی درکار ہے۔ ہر بیرونی اثر کو جو اس کے منافی ہو سختی کے ساتھ حلقہ تدریس سے علیحدہ رکھنا پڑے گا۔ ورنہ خطرہ یہ ہوگا کہ طالب علم کی تربیت ادھوری رہ جائے اور جو وقت عزیزا سے کسب علم میں صرف کرنا چاہئے تھا۔ محض سیاسی سرگرمیوں کی ہنگامی دلچسپیوں کی نذر ہو جائے ہمارے ملک کو سیاسی کارکنوں سے زیادہ ان علما اور فضلا کی ضرورت ہے جو بیک وقت علوم مشرقی، علوم مغربی، علوم دینی اور علوم دنیاوی کے جامع ہوں ظاہر ہے کہ ایسے ہمہ گیر لوگ تبھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب کہ علمی مشاغل میں سیاسی عوامل دخل اندازی نہ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ مغربی ممالک کے مقابلے میں ہمارا تعلیمی معیار پست ہے کسی حد تک تو یہ ہمارے اقتصادی حالات کا نتیجہ ہے۔ اور شاید یہ کہنا بھی خالی از صداقت نہیں کہ ہمارے اکثر اساتذہ طلبہ کے دلوں میں ذوق علم کی چنگاری مشتعل کرنے سے قاصر رہے۔ لیکن ذمہ داری کا بیشتر حصہ یقیناً خود طلبہ پر عائد ہونا چاہئے۔

\*\*\*\*\*

*Best of Luck for Special CSS & CSS-2024*

## Translation

It is life long obligation for a student to get their <sup>enlightenment</sup> ~~direction~~ from teachers and books which <sup>are</sup> the torch bearer in the obstacles <sup>in the path of life</sup> of life. This spirit must be protected from every external adversity affect; if it is not protected then the student will spoil his life, his academic studies and his precious time by indulging in ~~ruthless~~ / ~~worthless~~ political activities. The country needs more religious people who have a grip on both eastern and western knowledge, religious awareness and general knowledge <sup>of the world</sup> than people of political affiliations. Such fine personalities can only be <sup>produced</sup> if politics <sup>do not</sup> <sup>interfere</sup> <sup>in</sup> educational activities. It is <sup>Says</sup> that western education system is far better than Pakistan's to <sup>some</sup> extent it is due to their political turmoil. Perhaps, it would not <sup>be</sup> wrong to say that teachers ~~are~~ ~~failed~~ to rise the flare of affections for knowledge in their hearts, never the less, <sup>students</sup> <sup>himself</sup> must be responsible for it ✓

don't change urdu context  
translate word to word

5/10